



**”جو عورت اپنے اولیا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، اس کا نکاح باطل ہے“ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ بات تین بار فرمائی (پھر فرمایا: ) ”اگر مرد نے ایسی عورت سے دخول کر لیا، تو اس کے عوض میں عورت کے لیے مہر مقرر ہے اگر ولی آپس میں اختلاف کریں، تو حاکم وقت اس کا ولی ہے، جس کا کوئی ولی نہ ہو“**

ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: ”جو عورت اپنے اولیا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، اس کا نکاح باطل ہے“ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ بات تین بار فرمائی (پھر فرمایا: ) ”اگر مرد نے ایسی عورت سے دخول کر لیا، تو اس کے عوض میں عورت کے لیے مہر مقرر ہے اگر ولی آپس میں اختلاف کریں، تو حاکم وقت اس کا ولی ہے، جس کا کوئی ولی نہ ہو“

[صحیح] [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے خبردار کیا کہ کوئی عورت اولیا کی اجازت کے بغیر شادی کر لے آپ نے اس طرح کے نکاح کو باطل کہا ہے اور اس جملے کو تین بار دوہرایا ہے گویا کہ یہ نکاح ہوا ہی نہیں اگر عورت کے ولی کی اجازت کے بغیر اس سے نکاح کرنے والے شخص نے اس سے دخول کر لیا، توچوں کے اس سے جماع کر لیا ہے اس لئے اس عورت کو پورا مہر ملے گا اس کے بعد فرمایا کہ اگر ولایت عقد کے سلسلے میں اولیا کے درمیان اختلاف ہو جائے اور سارے اولیا مرتبہ میں برابر ہوں، تو اس کا کیا ہوا عقد درست ہوگا جو پہلے عقد کرائے، بشرطیکہ اس نے عورت کے مصالح کا خیال رکھتے ہوئے نکاح کرایا ہو اگر ولی نکاح کرانے سے منع کر دے، تو ایسا مانا جائے گا کہ اس کا ولی نہیں ہے ایسے میں سلطان اور اس کا قائم مقام جیسے قاضی وغیرہ اس کے ولی ہوں گے لیکن ولی کی موجودگی میں سلطان کو حق ولایت حاصل نہیں ہو سکتا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/58067>

